




S.No.	Date of order/ proceedings	Order or other proceedings with signature of Judge or Magistrate and that of parties where necessary.
1	2	3
	25.11.2021	<p><u>Present.</u></p> <p>Mr. Muhammad Abdullah Balouch, ... For appellant Advocate</p> <p>Mr. Noor Zaman Khattak, District Attorney, ... For respondents.</p> <p>Vide our detailed judgment in connected Service Appeal No. 1090/2016, titled "Muhammad Zubair Vs. Commandant, F.R.P Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar and others", the appeal in hand is dismissed. However, in order to prevent the multiplicity of proceedings and abuse of process of Tribunal it is apt to exercise jurisdiction under Rule 27 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Rules, 1974 to direct the respondents to process the case of promotion of police officers posted in FRP, in accordance with law, without delay. Parties are left to bear their own costs. File be consigned to the record room.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (SALAH-UD-DIN) Member(J) (Camp Court D.I.Khan) </div> <div style="text-align: center;">  (AHMAD SULTAN TAREEN) CHAIRMAN (Camp Court D.I.Khan) </div> </div> <p><u>ANNOUNCED</u> 25.11.2021</p>

23.11.2020

Appellant present through counsel.

Muhammad Jan learned Deputy District Attorney for respondents present.

A request for adjournment was made as issue involved in the present case is pending before Larger Bench of this Tribunal. Adjourned. To come for arguments on 25.01.2021, before D.B at Camp Court DI.Khan.



(Atiq-ur-Rehman Wazir)
Member (E)
Camp Court, D.I Khan



(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, D.I Khan


*Due to COVID, 19, the case is adjourned
to 24.3.2021 for the same.*




24.03.2021

Mr. Muhammad Abdullah Baloch, Advocate, for the appellant present. Mr. Muhammad Rasheed, Deputy District Attorney for the respondents present.

A request for adjournment was made as issue involved in the present case is pending adjudication before Larger Bench of this Tribunal. Adjourned. To come up for arguments before D.B at Camp Court D.I.Khan on 27.07.2021.



(MIAN MUHAMMAD)
MEMBER (EXECUTIVE)
CAMP COURT D.I.KHAN



(SALAH-UD-DIN)
MEMBER (JUDICIAL)
CAMP COURT D.I.KHAN

27-07-21

*Due to non-availability of bench, the case
is adjourned to 25.11.21.*



Reader

26/3/2020

Due to COVID-19 the case is adjourned. To come up for the same 22/4 /2020 at Camp Court, D.I Khan

Reader

22 /4/2020

Due to COVID-19 the case is adjourned. To come up for the same 24/4 /2020 at Camp Court, D.I Khan

Reader


24.09.2020


Counsel for appellant present.

Mr. Muhammad Jan, learned Deputy District Attorney for respondents present.

Former requests for adjournment as issue involved in the present case is pending before the Larger Bench of this Tribunal.


Adjourned to 23.11.2020 before D.B at Camp Court D.I Khan.



(Atiq-ur-Rehman Wazir)
Member (E)
Camp Court, D.I Khan


(Rozina Rehman)
Member (J)
Camp Court, D.I Khan

28.01.2020

Clerk of counsel for the appellant and Mr. Usman Ghani, District Attorney for the respondents present. Clerk of counsel for appellant requested for adjournment on the ground that learned counsel for the appellant is not available today. Adjourned to 25.02.2020 for arguments before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Hussain Shah)
Member
Camp Court D.I.Khan


(M. Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan

25.02.2020


Counsel for the appellant present. Mr. Usman Ghani, District Attorney for respondents present. Learned counsel for the appellant seeks adjournment. Adjourned. To come up for arguments on 26.02.2020 before D.B at camp court D.I.Khan.



Member


Member
Camp Court D.I.Khan

26.02.2020

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney for the respondents present. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned to 26.03.2020 for arguments before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Mian Mohammad)
Member
Camp Court D.I.Khan


(M. Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan

25.06.2019

Junior counsel for the appellant and Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents present. Junior counsel for the appellant requested for adjournment on the ground that learned senior counsel for the appellant is not available today. Case to come up for arguments on 27.08.2019 before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Hussain Shah)
Member

Camp Court D.I.Khan


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

Camp Court D.I.Khan

27.08.2019

Counsel for the appellant and Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents present. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned to 21.10.2019 for arguments before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Hussain Shah)
Member


Camp Court D.I.Khan


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member

Camp Court D.I.Khan


21/10/2019

Since tour to D.I.Khan has been cancelled .To come for the same on 25/11/2019.



Reader

26.11.2019

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney for the respondents present. Learned counsel for the appellant requested for adjournment. Adjourned to 28.01.2020 for arguments before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Hussain Shah)
Member

Camp Court D.I.Khan


(M. Amin Khan Kundi)
Member

Camp Court D.I.Khan

25.03.2019

21.01.2019

Counsel for the appellant and Mr. Farhaj Sikandar,
Junior to counsel for the appellant and Mr. Farhaj
Sikandar, District Attorney for the respondents present.

The court time is over, therefore the case of ~~Khyber~~
~~Pakhtunkhwa Bar Council~~ at the matter, D.I.Khan
25.03.2019 for arguments before D.B at camp court, D.I.Khan.



Member
Member



Chairman
Chairman
Camp Court, D.I.Khan
Camp Court, D.I.Khan

25.03.2019

Counsel for the appellant and Mr. Farhaj Sikandar,
District Attorney for the respondents present.


The court time is over, therefore case adjourned to
23.04.2019 before the D.B at camp court, D.I.Khan.



Member


Chairman
Camp Court, D.I.Khan

23.04.2019


Clerk of counsel for the appellant and Mr. Farhaj
Sikandar, District Attorney for the respondents present. Due to
strike of Khyber Pakhtunkhwa Bar Council, learned counsel for
the appellant is not available today. Adjourn. To come up for
arguments on 25.06.2019 before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(M. Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan


(M. Hamid Mughal)
Member
Camp Court D.I.Khan

28.11.2018

Counsel for the appellant Mr. Malik Hussain, Advocate present and submitted Vakalat Nama on behalf of the appellant. Vakalat Nama is placed on record. Mr. Usman Ghani, District Attorney on behalf of the respondents present and submitted written reply, copy of the same is handed over to learned counsel for the appellant. Adjourned. To come up for rejoinder and arguments on 18.12.2018 before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan


18.12.2018


As per direction of the worthy Chairman Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal, D.I.Khan tour dated 18.12.2018 has been rescheduled and the case is re-fixed for 27.12.2018.

Reader

27.12.2018

Counsel for the appellant present. Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents present. Learned counsel for the appellant submitted rejoinder requested for adjournment for arguments. Adjourned. To come up for arguments on 22.01.2019 before D.B at Camp Court D.I.Khan.


(Hussain Shah)
Member
Camp Court D.I.Khan


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan

15.03.2018

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, DDA for respondents present. Written reply not submitted despite last opportunities. Requested for further adjournment. Last opportunity further extended subject to payment of cost of Rs. 500/- which shall be borne by respondents from their own pockets. To come up for written reply on 28.06.2018 before S.B at camp court D.I.Khan.


(Ahmad Hassan)
Member
Camp Court D.I.Khan


28.06.2018

Tour is hereby cancelled, Therefore the case is adjourned for the same on ~~01.08~~ 2018 before S.B.


Reader
Camp Court D.I.Khan


~~01.08~~ 2018

Appellant present in person. Tour is hereby cancelled. Therefore the Case is adjourned for the same on 11.09.2018 before S.B.


Reader
Camp Court D.I.Khan

11.09.2018

Counsel for the appellant and Mr. Ziaullah, Deputy District Attorney for the respondents present. Representative of the department is not in attendance therefore, learned Deputy District Attorney is directed to contact the respondents for filing of written reply on the next date positively. Adjourned. To come up for written reply/comments on 28.11.2018 before S.B at Camp Court D.I.Khan,


(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I.Khan

Service Appeal No. 1097/2016

29.12.2017

Clerk of the counsel for appellant present. Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents also present. Representative of the department is not in attendance therefore, notice be issued to the respondents with the direction to direct the representative to attend the court and submit written reply on the next date positively. Adjourned. To come up for written reply/comments on 25.01.2018 before S.B at Camp Court D.I.Khan.



(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I. Khan

25.01.2018

Appellant with counsel present. Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents also present. Representative of the department is not in attendance therefore, notice be issued to the respondents with the direction to direct the representative to attend the court and submit written reply on the next date positively by way of last chance. Adjourned. To come up for written reply/comments on 15.03.2018 before S.B at Camp Court D.I.Khan.



(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I. Khan

22.02.2017

Mr. Muhammad Anwar Awan learned counsel for appellant present. Preliminary arguments heard. The promotion was granted to appellant Mr. Faisal Nawaz was taken back and he was reverted without any proper inquiry and procedure. He has been condemned unheard and in this course they have challenged the impugned orders.

Point raised needs consideration, the appeal is admitted for regular hearing. The appellant is directed to deposit the security and process fee within 10 days there-after notices be issued to the respondents for written reply/comments for 26.07.2017 before S.B at Camp Court D.I.Khan.


Appellant Deposited
Security & Process Fee



(ASHFAQUE TAJ)
MEMBER
Camp Court D.I.Khan

26.07.2017


Counsel for the appellant present. Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for official respondents also present. Representative of the respondent-department is not in attendance, therefore, notice be issued to the respondents with the direction to direct the representative to attend the court on the next date positively. Adjourned. To come up for written reply/comments on 23.10.2017 before S.B at Camp Court D.I.Khan.



(Muhammad Amin Khan Kundi)
Member
Camp Court D.I. Khan

26.10.2017

Appellant in person present. Mr. Farhaj Sikandar, District Attorney for the respondents present. None present on behalf of the respondent department. Notice be issued to the respondent department. To come up for written reply on 29.12.2017 before S.B at camp court D.I.Khan






(Muhammad Hamid Mughal)
Member
Camp Court D.I.Khan

Form- A
FORM OF ORDER SHEET

Court of _____

Case No. 1092/2016

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge or Magistrate
1	2	3
1	25/10/2016	<p>The appeal of Mr. Faisal Nawaz received today by post through Muhammad Anwar Awan Advocate may be entered in the Institution Register and put up to the Worthy Chairman for proper order please.</p> <p> REGISTRAR</p>
2		<p>This case is entrusted to Touring S. Bench at D.I.Khan for preliminary hearing to be put up there on <u>29.11.16</u>.</p> <p> CHAIRMAN</p>
	28.11.16	<p>Since D.I.Khan tour dated 28.11.2016 has been cancelled, therefore, case to come up for preliminary hearing on 22.02.2017 before S.B at Camp Court D.I.Khan.</p> <p> Reader</p>

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR
CAMP COURT D.I.KHAN.**

Appeal no. 1092 of 2016.

Faisal Nawaz VERSUS Commandant FRP & Others


INDEX

No.	Particulars	Annexure	Pages
1	Appeal		1-3
2	Copy of order dated: 19-04-2016	A	4
3	Copy of Pay Roll	B	5
4	Copy of Order 26-08-2016.	C	6
5	Copy of departmental appeal and order	D	7-8
6	Wakalat Nama	E	9

Your humble Petitioner

Faisal Nawaz

Dated: 22.10.2016


Mohammad Anwar Awan
Advocate Supreme Court.

**BEFORE THE KPK SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR
CAMP COURT D.I.KHAN.**

Appeal no. 1092 of 2016.

Faisal Nawaz No.701/FRP, D.I.Khan Range D.I.Khan.

Khyber Pakhtunkhwa
Service Tribunal

Diary No. 1121

Dated 25-10-2016

VERSUS

1. Commandant Frontier Reserve Police Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Superintendent of Police FRP D.I.Khan Range D.I.Khan.
3. Government of KPK through Secretary Interior Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF KPK SERVICE TRIBUNAL
ACT AGAINST ILLEGAL CANCELLATION ORDER
DATED: 28.06.2016 ON THE BACK OF APPELLANT.**

Anwar
That the brief facts of the case are as under:

1. That the appellant is serving in the Frontier Reserve Police Department and deputed in FRP D.I.Khan Range as a constable since 2006.
2. That appellant, was promoted to the rank of head constable with immediate effect on 19-04-2016 by respondent No.02 having good performance, clean record and passed his courses of civil defence etc.

Copy of order dated: 19-04-2016 is annexure A.

25/10/16
That after promotion order, the appellant took the charge, which was duly entered in his service book and appellant received the pay of head constable. Copy of pay roll is annexure B.

4. That respondent No.01 without giving any notice and conducting inquiry, issued letter dated: 28.06.2016 in the absence of appellant by cancelling his promotion as head constable along with others with retrospective effect. Copy of order is annexure C.

Filed to -
Registrar

pleased to declare the order dated: 28.06.2016 being illegal, void and without lawful authority and has no legal effect and appellant may kindly be reinstated at the post of head constable with all back benefits.

YOUR HUMBLE APPELLANT

5. That feeling aggrieved after communication of above said illegal order on 20-08-2016, appellant filed departmental appeal dated 26-08-2016 which was also rejected. Copy of departmental appeal and order are Annexure D.
6. That order in appeal is communicated to appellant on 06.10.2016, so feeling aggrieved from above said action appellant is constrained to approaches this honorable court on the following amongst other:

GROUND:


1. That the appellants are not treated in accordance with law and the actions of the respondents are malafide besides being discriminatory and harsh.
2. That respondent No .02 according to rules promoted the appellant after considering application for promotion. The appellant was appointed as constable on 31.05.2006, during his service he passed five course of civil defense and also pass A-1 course and became senior most constable in FRP D.I.Khan range. The promotion order of appellant was in accordance with law and rules framed by the government which was dually implemented and respondent No.01 has no authority to cancel the same without giving any notice or opportunity of hearing.
3. That standing order 2 of 2016 does not restrict the respondent No.02 to not promote the appellant and any irregularity committed by authority does not harm the appellant in any manner.
4. That appellant is not being penalized without giving them any opportunity of hearing nor has given any show cause notice by the department, which is against the principal of natural justice.

In view of the above, It is, therefore, most respectfully prayed that on acceptance this appeal this honorable court may

A-4

ORDER.


Constable Faisal Nawaz No. 701/FRP, (Old SPL), of this FRP Range is hereby promoted to the Rank of Head Constable (BPS-07) and allotted Head Constabulary No. 7141/FRP, & Posted in Platoon No. 164 FRP Police Line D.I.Khan.


**Superintendent of Police,
FRP, D.I.Khan Range, D.I.Khan.**

No. 772-73 /FRP, Dated of D.I.Khan 18 /04/2016.

Copy of above is sent to the:-

1. Pay Officer FRP D.I.Khan.
2. OHC/SRC FRP D.I.Khan.


**M. ANWAR AWAN
Advocate**


**Superintendent of Police,
FRP, D.I.Khan Range, D.I.Khan.**

OB-415

18.04.2016

Accounts Office D.I. Khan
PAYROLL REGISTER
For the month of June, 2016

Page : 1.880
Date : 25.06.

DDO : DI4051 KF (FPE) DIKHAM
2174 Adhoc Relief Allow-2 644.00
2199 Adhoc Relief Allow B 902.00

Payroll Section : 002 Payroll 2

PAYMENTS
Branch Code: 221359

25,567.00
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

DEDUCTIONS
Habib Bank limited

838.00-
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

NET PAY
D.I. KHAN

24,729.00 01.06.2016 30.06.
Acct. No: 13597901297603

00553410 MUHAMMAD FAISAL
PAYMENTS

CHNIC: 1210194811541
AMOUNT

Design: CONSTABLE

(80178793) Grade: 05 NTH:
LOAN/FUND

Buckle No.: 6061
PRINCIPAL

Gazetted/Non-Gazetted:
REPAID BALANCE

0001 Basic Pay 9,025.00
1000 House Rent Allowance 1,002.00
1210 Convey Allowance 20 1,932.00
1300 Medical Allowance 1,500.00
1547 Ration Allowance 681.00
1567 Washing Allowance 100.00
1646 Constabulary R Allow 300.00
1901 Risk Allowance (Poli 5,810.00
1902 Special Incentive Al 775.00
2148 15% Adhoc Relief All 966.00
2168 Fixed Daily Allowance 2,730.00
2174 Adhoc Relief Allow-2 644.00
2199 Adhoc Relief Allow B 902.00

AMOUNT

DEDUCTIONS
3005 EPF Subscription - Rs 604.00-
3511 Adml Group Insurance 7.00-
3530 Police mel:Fud NS-1 t 100.00-
3604 Group Insurance 87.00-

AMOUNT

SPFF: EDUDK006385

39,176.00

471

PAYMENTS
Branch Code: 221359

25,567.00
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

DEDUCTIONS
Habib Bank limited

838.00-
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

NET PAY
D.I. KHAN

24,729.00 01.06.2016 30.06.
Acct. No: 13597901295203

00553412 FAISAL NAHARZ
PAYMENTS

CHNIC: 1210164742613
AMOUNT

Design: HEAD CONSTABLE

(80169359) Grade: 07 NTH:
LOAN/FUND

Buckle No.: 6274
PRINCIPAL

Gazetted/Non-Gazetted:
REPAID BALANCE

0001 Basic Pay 9,565.00
1000 House Rent Allowance 1,059.00
1210 Convey Allowance 20 1,932.00
1300 Medical Allowance 1,500.00
1547 Ration Allowance 681.00
1567 Washing Allowance 100.00
1646 Constabulary R Allow 300.00
1901 Risk Allowance (Poli 5,295.00
1902 Special Incentive Al 775.00
2148 15% Adhoc Relief All 1,005.00
2168 Fixed Daily Allowance 2,730.00
2174 Adhoc Relief Allow-2 670.00
2199 Adhoc Relief Allow B 956.00

AMOUNT

DEDUCTIONS
3007 EPF Subscription - Rs 604.00-
3511 Adml Group Insurance 7.00-
3530 Police mel:Fud NS-1 t 191.00-
3604 Group Insurance 87.00-

100

SPFF: EDUDK006383

39,258.00

PAYMENTS
Branch Code: 221359

26,568.00
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

DEDUCTIONS
Habib Bank limited

951.00-
CIRCULAR ROAD, D.I. KHAN.

NET PAY
D.I. KHAN

25,617.00 01.06.2016 30.06.20
Acct. No: 13597901292003

00553413 MUHAMMAD ZUBAIR
PAYMENTS

CHNIC: 1210177800473
AMOUNT

Design: CONSTABLE

(80178795) Grade: 05 NTH:
LOAN/FUND

209 Gazetted/Non-Gazetted:
REPAID BALANCE

0001 Basic Pay 9,025.00
1000 House Rent Allowance 1,002.00
1210 Convey Allowance 20 1,932.00
1300 Medical Allowance 1,500.00
1547 Ration Allowance 681.00
1567 Washing Allowance 100.00
1646 Constabulary R Allow 300.00
1901 Risk Allowance (Poli 5,810.00

AMOUNT

DEDUCTIONS
3005 EPF Subscription - Rs 604.00-
3511 Adml Group Insurance 7.00-
3530 Police mel:Fud NS-1 t 100.00-
3604 Group Insurance 87.00-

SPFF: 1


39,176.00

B-5-1

C-6-

ORDER

ORDER



ORDER

SP FRP DI Khan Range office orders so far as relates to the promotion of following officials to the rank of Head Constables which were made in violation of standing order No.2/2016 is hereby cancelled with retrospective effect.

S No	Name of Official	Promotion Book	Order	Dated
1	Muhammad Zubair No.7125	390		15.04.2016
2	Malik Fida Hussain No.7214	388		15.04.2016
3	Muhammad Waseem No.7171	392		15.04.2016
4	Islam, Ullah No.7120	394		15.04.2016
5	Qayoum Nawaz, No. 7129	413		18.04.2016
6	Muhammad Nadeem No.7124	429		19.04.2016
7	Khalid Naveed No.7148	437		19.04.2016
8	Muhammad Ramzan No.7127	396		15.04.2016
9	Faisal Nawaz No.7141	415		18.04.2016

[Signature]
 Commandant
 Frontier Reserve Police
 Khyber Pakhtunkhwa Peshawar

No. 5477

IEC, dated Peshawar the, 28 10/6 2016.

Copy of above is forwarded to the SP FRP DI Khan Range for necessary action.

OHC/OB/SRC/PO

For/n action

[Signature]
 MANWAR AWAN
 District

OB-615
 29-06-2016

SP FRP DI Khan

116

M. ANWAR AWAN
Advocate

7810

7830

7238

7028

7919

7338

7795

7730

7544

Faisal Nawaz

Abdullah

Qasim

Abdullah

Khalid

Imran

Zahid

Lo/RR/Dik

Shahzad

26.08.2016

تمت

میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔

02/2016

میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔
میں نے اپنے تمام اثاثوں کو اپنے نام پر لے لیا ہے۔

1-7-

P-16

17.9

Sr.

A joint application submitted by the following lower subordinates of FRP, DI Khan Range DI Khan stating therein that on the basis of courses and seniority, they were promoted to the rank of Head Constable.

S.No	Name	No.
1.	FC Muhammad Zubair	7574
2.	FC Muhammad Waqar	7328
3.	FC Malik Nida Hussain	7795
4.	FC Khalid Naveed	7358
5.	FC Islam Ullah	7919
6.	FC Muhammad Nadeem	7328
7.	FC Qayoum Nawaz	7288
8.	FC Muhammad Faisal	7600
9.	FC Muhammad Ramzan	7840

Now vide this office order No.5477/EC, dated 28.06.2016 they were reverted back to the rank of Constables as their promotion orders were made in-violation of standing order No. 2/2016.

At last they had prayed for setting aside their reversion orders.

Submitted for kind order please.

19.9.2016
E.C

Office Supdt:

19.9.16

MANJAN AWAN
Advocate

Commandant FRP KP

Rejected

- 9 -

VAKALATNAMA

IN THE COURT OF KPK service Tribunal D.I.KHAN.

Faisal Nawaz **VERSUS** commandant FRP

TITLE Appeal

I/WE Appellant
the above named Faisal Nawaz hereby appoint

MUHAMMAD ANWAR AWAN ADVOCATE SUPREME COURT, D.I.KHAN

in the above Captioned Case to all or any of the following Acts Deeds & Things.

- ✓ To Appear, Act & Plead for Me/Us in the above mentioned cases in this Court/Tribunal in which the same may be tried or heard or any other proceedings out of our connected therewith.
- ✓ To Sign, Verify, File OR Withdraw all Proceedings, Petitions, Appeals, Affidavits, Applications for Compromise OR Withdrawals OR for the Submission of Arbitration of the said case OR any other Documents may be Deemed Necessary OR Advisable by them by the Conduct, Prosecution OR Defense of the above case at all its stages.
- ✓ To Receive Payments, Issue Receipts for all moneys that may be OR Become Due & Payable to us during the course on Conclusion of the Proceedings.
- ✓ To do all other Acts & Things, Which may be Deemed Necessary OR Advisable during the course of Proceedings.

AND HEREBY AGREE:

- To Ratify Whatever Advocates may do the Proceedings.
- Not to Hold the Advantages Responsibilities if the said case be proceed Ex-parte OR Dismissed in Default in Consequence of their Absence from the Court when it is called for Hearing.
- That the Advocates shall be entitled to withdraw from the Prosecution of the said case if the Whole or any part of the Agreed Fee Remain Un-Paid.
- That Advocates may be Permitted to argue any other point at the time of Arguments.

In Witness Whereof I/We have signed this Vakalatnama here under the Contents of which have been Read/Explained to Me/Us which is fully understood by Me/Us.

Dated: _____

Faisal Nawaz

Accepted By:

SIGNATURE OF EXECUTANT (S)

Muhammad Anwar Advi

**MUHAMMAD ANWAR AWAN
ADVOCATE SUPREME COURT**

Phone Office: 0966-730828

Cell No: 03339962231

BEFORE THE K.P.K SERVICE TRIBUNAL PESHAWAR

S.T.A No. _____ 2018

MUHAMMAD ZUBAIR

VERSUS

COMMANDANT F.R.P & OTHERS

REJOINDER TO THE COMMENTS OF RESPONDENTS

Respectfully Sheweth,

REPLY TO PRELIMINARY OBJECTION.

1. The Para of Respondents is incorrect. Thus the Para is denied the appeal id filed within time.
2. That Para of Respondents is incorrect. The Appellant has impleaded all necessary party in the instant Appeal.
3. The Para of Respondents is incorrect. The Appellant is an aggrieved person. Thus Cause of accrued to him.
4. That Para of Respondent is incorrect. The Respondents have not been explained the un cleanliness of the Appellant.
5. The Para of Respondents is incorrect. No any estoppels have been explained by the Respondents.
6. The Para of Respondent is also incorrect. The Appellant have put the factual and correct position in the Appeal.

REPLY TO FACTS COMMENTS OF RESPONDENT.

1. That the respondents have accepted the Para of Appeal. Thus need no further comments.
2. Appellant have been correctly/ genuinely promoted by the Department. The plea of the Respondents that the Promotion have been made due to an oversight/ inadvertently is incorrect and un justified. Thus the Para is denied.
3. That the Para No.3 of Respondent is incorrect. The Appellant has been promoted as head Constable according rules and policy and Standing order. Thus the plea of Respondents vehemently denied.
4. That the Para 4 of the respondent is incorrect. The Appellant have been promoted by the department and in this connection no any Charge Sheet, Statement of Allegation have been issued to the concerned Official, who violated the rules and regulation (if any). However the Appellant may not be


punished on the fault / flaws of the Respondents thus the Para as vehemently denied.

5. That Para No 5 of the Respondents is incorrect. The Appeal of the Appellant was liable to be accepted. As he was reverted from Head Constable.
6. That Para No 6 of the Respondent is incorrect. No any unclean lines have been explained by the Respondent in his comments. Thus Para 6 of the Respondent is denied.

REPLY TO GROUNDS OF COMMENTS OF RESPONDENT.

1. That Para No.1 of respondents is incorrect. Their plea that the orders have been issued in hasty manner. But in this connection no any Charge Sheet, Explanation Call, enquiry have been conducted. The Promotion have been made according Standing order. Thus the action and omission of the Respondents is illegal, un lawful and without lawful authority. They were required to punish their own staff who violated the standing order if any. The Para of the Respondents is vehemently denied.
2. That the Para of respondent is incorrect. The Appellant have due right for promotion and he was promoted according rules and laws. That no any violation has been done in promotion of the Appellant. He was correctly and due to his right he was promoted.
3. That the Respondents No.2 is competent to Promote the Appellant to the Post of Head Constable. Thus Para No. 3 of comments is vehemently denied.
4. That Para No: 4 is incorrect. The Appellant had due rights who have been promoted. Thus no any violation of standing orders has been made. Thus Para is denied.


In wake of submission made above it is humbly prayed that the Appeal of the Appellant may kindly be accepted with all back benefit as prayed in the heading of Appeal.


Your Humble Appellant.

Muhammad Zubair

AFFIDAVIT

I, Muhammad Zubair S/O Muhammad Taqi R/O Mohallah Wakeelan Wala D.I.Khan Constable FRP D.I.Khan do hereby solemnly affirm and declare on oath that the contents of the reply to comments are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.




DEPONENT

26/12/18



MOHAMMAD HUSSAIN

Advocate

bc-11-4786

Date of Issue: November 2017

Valid upto: November 2020



Adv. Secretary
KP Bar Council

کورٹ فیس

بعدالت جناب سسورٹریٹ جنرل ایس ایچ ڈی

منجانب خالد کوئید

نام خالد کوئید FRP

دعویٰ یا جرم

تفصیل دعویٰ یا جرم

سروس کیل

باعث تحریر آنگہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے پیر ہوا جو ایڈی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ کے مقام پر ڈاکٹر صاحب کیلئے

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں برپیشی پر خود بذریعہ اختیار خانی رو برو بعدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت پکارتے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوا۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر مقام پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عتقانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخلہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ، یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء، گری و نظر ثانی اپیل نگرانی دہرسم درخواست، پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر جاتی یا رضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ میں ان از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل نگرانی و برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری کی طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء ڈگری بھی، صاحب موصوف کو بشرط ادا کیے علیحدہ عتقانہ بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخلہ صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا نگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کی دوسرے وکیل یا پیر نہ کرانے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التوا پڑے، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں ہر کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے

موتی 28 نومبر 2018ء

مضمون وکالت نامہ مندرجہ بالا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

العبد العبد العبد

Accepted

خالد کوئید

Miss Qureshi
Advocate DIC
28/11/18



MOHAMMAD HUSSAIN

Advocate

bc-11-4786

Date of issue: November 2017

Valid upto: November 2020



Adv. Secretary
KP Bar Council

کورٹ فیس

بعدالت جناب سروسٹریٹ ہینرل سٹریٹ سٹار کیمپ DPK

منجانب محمد وسیم
بنام سمنٹ فرم FRP

دعویٰ یا جرم

سروسٹریٹ ہینرل

تفصیل دعویٰ یا جرم

باعث تحریر آنگہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرون و جوابدہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام DPK کیلئے

مدعی محمد حسن جوڑا ایدو کیمپ

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں برپیشی پر خود بذریعہ اختیار خامیوں رو بہ عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوا۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا چھپے یا پردہ قہطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا چھپے یا پردہ قہطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا پردہ قہطیل یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا چھپے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عتقانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخل صاحب موصوف مل کر وہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء کے گری و نظر ثانی اپیل نگرانی دہرم درخواست پر دتھ و قہطیل کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر حاشی یا راضی نامہ ذیصلہ پر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیش مقدمہ مذکورہ میں ان کی پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل و نگرانی۔ برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری کے طرف یا درخواست حکم امتناعی یا فرقی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء کے ذکر کی بھی صاحب موصوف کو بشرط اذائیگی علیحدہ عتقانہ بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخل صاحب موصوف مل کر وہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا نگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ایئر نر کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ التواء پڑے، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں ہر کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے

موت 28 نومبر 2018ء

مضمون وکالت نامہ من کیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

العبد العبد العبد

Accepted

Ms. Qazi Advocate DPK 28/11/2018

محمد وسیم



وکالت نامہ

MOHAMMAD HUSSAIN

Advocate

bc-11-4786

Date of Issue: November 2017

Valid upto: November 2020



Adv. Secretary
KP Bar Council

کورٹ فیس

بعدالت جناب
 سر سید سید علی شاہ صاحب
 فیصل آباد
 دعویٰ یا جرم
 تفصیل دعویٰ یا جرم
 سر سید سید علی شاہ
 باعث غریر آنگہ

تقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے چھوٹی وجوہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ مقام D.K.C. کیلئے
 سید محمد حسین جوڑا ایجوکیشن

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں ہر پیشی پر خود بذریعہ اختیار خالص رو برو عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت نکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوں۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات سے آگے پیچھے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا نکتانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخل صاحب موصوف عمل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی دعویٰ یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراءے ذمہ داری نظر ثانی اپیل نگرانی و ہر قسم درخواست پر دخل و تصرف کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ذمہ داری کرنے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور داخل کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر ثانی یا راضی نامہ دینے پر طلب کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیش مقدمہ مذکورہ میں ان پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل و گمانی و برآمدگی مقدمہ یا مستوفی ذمہ داری یا طرف یا درخواست حکم انتظامی یا ترقی یا گرفتاری قبل از ایملہ اجراءے ذمہ داری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا کیے علیحدہ ضمانت بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخل صاحب موصوف عمل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ پر اسکے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا نگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ہر شخص کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے ہر شخص قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جانہ انتہاء پڑے، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری نہیں تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے
 مورخہ 28 نومبر 2017ء

مضمون وکالت نامہ کن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔


العبد العبد العبد

Accepted

فیصل آباد 701

Faisal Nawaz

Advocate D.K.C. 28/11/18



KHYBER PAKHTUNKHWA
BAR COUNCIL

ADVOCATE

وکالت نامہ

MOHAMMAD HUSSAIN

Advocate

bc-11-4786

Date of Issue: November 2017

Valid upto: November 2020



Adv. Secretary
KP Bar Council

کورت فیس

بعدالت جناب سروسٹریٹس ٹرانسپورٹیشن کمپنی ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ

محمد نسیم
نام سروسٹریٹس ٹرانسپورٹیشن کمپنی (P.R.I)

تفصیل دعویٰ یا جرم سروسٹریٹس ٹرانسپورٹیشن کمپنی

باعث تحریر آف انک

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے بیرونی و حیدرآبادی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں ہر پیشی پر خود بذریعہ اختیار خامیوں اور بر عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت نکارتے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر منظر حاضر نہ ہوں اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر پکھری کے علاوہ اور جگہ ساعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے پیش ہونے پر منظر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عتقانہ واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پرواضح صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرضی، عینی، یا جواب، دعویٰ یا در دست اجراء، ڈگری و نظر ثانی اپیل مگرانی درہم درخواست پر دستخط و تصدیق کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کا روپیہ وصول کرنے اور رسید دینے اور اظہار کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر تاشی یا ماضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ میں ان از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل مگرانی، برآمدگی مقدمہ یا منسوخی ڈگری کی طرف یا درخواست حکم انتہائی یا ترقی یا گرفتاری نکل از ایملہ اجراء کے ڈگری بھی صاحب موصوف کو بشرط ادائیگی علیحدہ عتقانہ بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پرواضح صاحب موصوف مثل کردہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ پر اسکے کسی بزدلی کاروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل یا مگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کسی دوسرے وکیل یا ایجنٹ کو اپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے مشیر قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائز التواہ پڑے، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا کر لیں گے۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ لیں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

ہذا اذکات نامہ لکھا ہے۔ تاکہ سند ہے
موری 28 نومبر 2018ء

مضمون وکالت نامہ سن لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔

العبد العبد العبد

Accepted

محمد نسیم 947

Advocate
28/11/18



وکالت نامہ

MOHAMMAD HUSSAIN

Advocate

bc-11-4786

Date of Issue: November 2017

Valid upto: November 2020



کورٹ فیس

Adv. Secretary
KP Bar Council

بعدالت جناب سرور محمد علی شاہ کبیر داد

منجانب سہیل مندا حسن

بنام مندا حسن FRP

دعویٰ یا جرم

سہیل مندا حسن

تفصیل دعویٰ یا جرم

باعث تحریر آئنگہ

مقدمہ مندرجہ بالا عنوان میں اپنی طرف واسطے پیروی و جوابدہی برائے پیشی یا تصفیہ مقدمہ بمقام Dik کیلئے

کو حسب ذیل شرائط پر وکیل مقرر کیا ہے، کہ میں ہر پیشی پر خود بذریعہ اختیار حامی رو برو عدالت حاضر ہوتا ہوں گا۔ اور ہر وقت پکارے جانے مقدمہ وکیل صاحب موصوف کو اطلاع دیکر حاضر عدالت کروں گا، اگر پیشی پر مظہر حاضر نہ ہوا۔ اور مقدمہ میری غیر حاضری کی وجہ سے کسی طور پر میرے برخلاف ہو گیا۔ تو صاحب موصوف اسکے کسی طرح ذمہ دار نہ ہوں گے، نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ نیز وکیل صاحب موصوف صدر مقام پکھری کے علاوہ کسی جگہ یا پکھری کے اوقات سے پہلے یا پیچھے یا بروز تعطیل بیرونی کرنے کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اور مقدمہ صدر مقام پکھری کے علاوہ اور جگہ سماعت ہونے یا بروز تعطیل یا پکھری کے اوقات سے آگے پیچھے پیش ہونے پر مظہر کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کے ذمہ دار یا اس کے واسطے کسی معاوضہ کے ادا کرنے یا عتاب واپس کرنے کے بھی موصوف ذمہ دار نہ ہوں گے۔ مجھ کو کل ساختہ پر داخل صاحب موصوف مل کر وہ ذات خود منظور قبول ہوگا۔ اور صاحب موصوف کو عرض دعویٰ، یا جواب دعویٰ یا درخواست اجراء کے ذریعہ نظر ثانی اپیل مگرانی اور ہر قسم درخواست پر دخل و تصرف نہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا۔ اور کسی حکم یا ڈگری کرانے اور ہر قسم کاروبار وصول کرنے اور رسید دینے اور دائر کرنے اور ہر قسم کے بیان دینے اور اس پر غامبی یا راضی نامہ و فیصلہ بر حلف کرنے، اقبال دعویٰ کا بھی اختیار ہوگا۔ اور بصورت مقرر ہونے تاریخ پیشی مقدمہ مذکورہ میں ان از پکھری صدر بیرونی مقدمہ مذکورہ نظر ثانی و اپیل مگرانی و برآمدگی مقدمہ یا منوشی ڈگری کی طرف یا درخواست حکم اختتامی یا ترقی یا گرفتاری قبل از فیصلہ اجراء کے ذریعہ بھی صاحب موصوف کو بشرط ادا کیگی صلحہ و عتاب بیرونی کا اختیار ہوگا اور تمام ساختہ پر داخل صاحب موصوف مل کر وہ ذات خود منظور و قبول ہوگا۔ اور بصورت ضرورت صاحب موصوف کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ مقدمہ مذکورہ یا اسکے کسی جزو کی کارروائی یا بصورت درخواست نظر ثانی اپیل مگرانی یا دیگر معاملہ مقدمہ مذکورہ کی دوسرے وکیل یا ایئر شروکاپنے بجائے یا اپنے ہمراہ مقرر کریں۔ اور ایسے شیعہ قانون کو بھی ہر امر میں وہی اور ویسے اختیارات حاصل ہوں گے، جیسے صاحب موصوف کو حاصل ہیں، اور دوران مقدمہ میں جو کچھ ہر جائز انتہاء پر ہوگا، وہ صاحب موصوف کا حق ہوگا۔ مگر صاحب موصوف کو پوری فیس تاریخ پیشی سے پہلے ادا نہ کروں گا۔ تو صاحب موصوف کو پورا اختیار ہوگا کہ وہ مقدمہ کی بیرونی نہ کریں اور ایسی صورت میں میرا کوئی مطالبہ کسی قسم کا صاحب موصوف کے برخلاف نہیں ہوگا۔

لہذا وکالت نامہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ سند رہے

28 نومبر 2018ء

مضمون وکالت نامہ من این لیا ہے۔ اور اچھی طرح سمجھ لیا ہے اور منظور ہے۔


Accepted

سہیل مندا حسن

Advocate Dik
28/11/18



محمد حسین



بھارت خیریت (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)
 ڈیڑھ بجے 829
 ڈیڑھ بجے 829
 ڈیڑھ بجے 829
 ڈیڑھ بجے 829
 ڈیڑھ بجے 829

انچھوڑا کرنا

پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)

پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)
 پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)
 پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)
 پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)
 پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)

28/11/2018
 28

پاکستان ہائیکورٹ (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ) (پاکستان ہائیکورٹ)

محمد حسین

Advocate
 28/11/2018
 DMC